



سوال

(396) مشکوک بات کو چھوڑ دو

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میں بیس سال کا نوجوان ہوں، میں نے جب اپنے نصف دین کی تکمیل کے سلسلہ میں اپنے ایک قریبی خاندان کے متعلق سوچا اور حالات کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ میں نے بچپن میں اس لڑکی کی والدہ کا دودھ پیا ہے جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن لڑکی کی والدہ کو یہ معلوم نہیں کہ اس نے مجھے کتنے رضعات دودھ پلایا ہے، رضاعت کے وقت اس کا صرف ایک ہی بچہ تھا اور میری والدہ اس وقت فوت ہو چکی تھیں، کیا اس خاتون کی بیٹی سے میرے لئے شادی کرنا حلال ہے یا رضاعی بہن ہونے کی وجہ سے حرام ہے؟ امید ہے جواب سے مطلع فرمائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے، آپ کے علم سے نفع پہنچانے اور آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اگر وہ رضاعت موجود ہو جس سے حرمت ثابت ہوتی ہے اور وہ پانچ معلوم رضعات ہیں تو یہ لڑکی آپ کیلئے حلال نہ ہوگی کیونکہ یہ آپ کی بہن ہے اور اس کی والدہ آپ کی رضاعی ماں ہے۔ آپ کی والدہ کو اگر رضعات کی تعداد میں شک ہو تو پھر بھی بہتر یہ ہے کہ آپ کسی اور لڑکی سے شادی کریں، کیونکہ حرمت کا گمان ضرور ہے، لہذا مشکوک بات کو چھوڑ کر اسے اختیار کریں جو شک و شبہ سے بالا ہو، خصوصاً ان حالات میں جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ شیر خواہ بچے تھے، لہذا ظن غالب یہی ہے کہ اس عورت نے آپ کو بہت دودھ پلایا ہوگا۔

حذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ

کتاب الرضاع: جلد 3 صفحہ 365

محدث فتویٰ